

Psa

Chapter 119

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **אַשְׁרֵי** **תְּמִימֵי** **דָּרָךְ** **הָהַלְכִים** **בְּתוֹרַת** **יְהוָה:**
مُبَارَكٌ كَامِلٌ رَاهِ-وَالِے جُو-چَلتے-ہیں یہوواہ-کی-شریعت-میں یہوواہ
H0835 H8549 H1870 H1980 H8451 H3068

ہیں۔گزارتے زندگی مطابق کے شریعت کی رب جو ہے، بے الزام چلن چال کا جن وہ ہیں مبارک

2 **אַשְׁרֵי** **نִצְרֵי** **עֲדָתָיו** **בְּכָל-** **לֵב** **יִדְרֹשׁוּהוּ:**
مُبَارَكٌ جُو-نگہبانی-کرتے-ہیں اُس-کی-شہادتوں-کی سارے دل-سے اُسے-ڈھونڈتے-ہیں
H0835 H5341 H3605 H1875

ہیں، رہتے طالب کے اُس سے دل پورے اور کرتے عمل پر احکام کے اُس جو وہ ہیں مبارک

3 **אֵךְ** **לֹא-** **פָּעְלוּ** **עוֹלָה** **בְּדַרְכָיו** **הַלְכוּ:**
بھی نہیں کرتے بدکاری اُس-کی-راہوں-میں چلتے-ہیں
H0637 H3808 H6466 H1870 H1980

ہیں۔چلتے پر راہوں کی اُس بلکہ کرتے نہیں بدی جو

4 **אֵתָה** **צְוִיתָה** **פְּקֻדֶיךָ** **לְשֹׁמֵר** **מְאֹד:**
تُو-نے حکم-دیا اپنے-احکام ماننے-کا بہت
H6680 H6490 H8104 H3966

رہیں۔تابع کے اُن سے لحاظ بر ہم کہ بے چاہتا تُو اور ہیں، دیئے احکام اپنے ہمیں نے تُو

5 **אֲחֻלִי** **יְכַנּוּ** **דַרְכֵי** **לְשֹׁמֵר** **חֻקֶיךָ:**
کاش قائم-ہوں میری-راہیں ماننے-کو تیرے-فرائض
H0305 H1870 H8104 H2706

کروں!عمل پر احکام تیرے سے قدمی ثابت میں کہ ہوں پختہ اتنی راہیں میری کاش

6 **אֵז** **לֹא-** **אֲבוֹשׁ** **בְּהִבְיטִי** **אֶל-** **כָּל-** **מַצּוֹתֶיךָ:**
تب نہیں شرمندہ-ہوں-گا دیکھتے-ہوئے کی-طرف سب تیرے-احکام
H3808 H0954 H5027 H0413 H3605 H4687

گی۔رہیں لگی پر احکام تمام تیرے آنکھیں میری کیونکہ گا، ہوں نہیں شرمندہ میں تب

7 **אֲזָדָךְ** **בְּנִשְׁר** **לֵבְב** **בְּלִמְדֵי** **מִשְׁפָּטֵי** **צְדָקָתְךָ:**
شکر-کروں-گا-تیرا صداقت-کے-ساتھ دل-کی سیکھتے-ہوئے تیری-عدالتوں-کو تیری-راستبازی-کی
H3034 H3476 H3824 H3925 H4941 H6664

گا۔کروں ستائش تیری سے دل دار دیانت ہی اتنا گا سیکھوں میں بارے کے فیصلوں باانصاف تیرے میں جتنا

8 **אֵת-** **חֻקֶיךָ** **אֲשֹׁמֵר** **אֶל-** **תַּעֲזֹבֵנִי** **עַד-** **מְאֹד:**
کو تیرے-فرائض مانوں-گا نہ چھوڑ-مجھے تک بالکل
H0853 H2706 H8104 H0408 H5704 H3966

کرانہ ترک طرح پوری مجھے گا۔ کروں عمل وقت بر میں پر احکام تیرے

9 **בְּמַה** **יִזְכֶּה-** **נַעַר** **אֶת-** **אֶרְחוּ** **לְשֹׁמֵר** **כְּדַבְרֶךָ:**
کس-سے پاک-رکھے نوجوان کو اپنی-راہ ماننے-سے تیرے-کلام-کے-مطابق
H4100 H2135 H5288 H0853 H0734 H8104 H1697

گزارے۔ زندگی مطابق کے کلام تیرے کہ طرح اس رکھے؟ پاک طرح کس کو راہ اپنی نوجوان

10	בְּכָל- سارے	לְבִי دل سے	דְּרַשְׁתִּיךָ ڈھونڈا-تجھے	אֶל- نہ	תִּשְׁנֶנִּי بھٹکنے-دے-مجھے	מִמִּצְוֹתֶיךָ: تیرے-احکام-سے
	H3605	H1875	H0408	H7686	H4687	

دے۔ نہ بھٹکنے سے احکام اپنے مجھے ہوں۔ رہا طالب تیرا سے دل پورے میں

11	בְּלִבִּי اپنے-دل-میں	צִפְנֵתִי چھپایا	אִמְרֹתֶיךָ تیرا-کلام	לְמַעַן تاکہ	לֹא نہ	אֶחְסֵא- گناہ-کروں	לָךְ: تیرے-خلاف
	H6845	H4616	H3808	H2398			

کروں۔ نہ گناہ تیرا تاکہ بے رکھا محفوظ میں دل اپنے کلام تیرا نے میں

12	בְּרוּךְ مبارک	יְהוָה ہے-تُو	אֵתָהּ یہوواہ	לְמַדְנִי سکھا-مجھے	חֻקֶיךָ: تیرے-فرائض
	H1288	H3068	H3925	H2706	

سکھا۔ احکام اپنے مجھے ہوا! حمد تیری رب، اے

13	בִּשְׁפָתִי اپنے-ہونٹوں-سے	סִפְרֹתֵי بیان-کیا	כָּל سب	מִשְׁפָּטֶי- تیرے-منہ-کے- فیصلے	פִּיךָ: تیرے-منہ-کے
	H8193	H3605	H4941	H6310	

ہوں۔ سناتا ہدایات تمام کی منہ تیرے کو دوسروں میں سے ہونٹوں اپنے

14	בְּדֶרֶךְ راہ-میں	עֲדוּתֶיךָ تیری-شہادتوں-کی	שִׂשְׁתִּי خوش-ہوا	כְּעֵל جیسے	כָּל- سب	הוֹן: دولت-پر
	H1870	H5715	H7797	H3605	H1952	

سے۔ دولت کی طرح ہر کہ جتنا ہوں ہوتا اندوز لطف اتنا سے راہ کی احکام تیرے میں

15	בְּפִקְוֶיךָ تیرے-احکام-پر	אֲשִׁיחָה غور-کروں-گا	וְאֲבִיטָה اور-دیکھوں-گا	אֲרַחֲתֶיךָ: تیری-راہوں-کو
	H6490	H7878	H5027	H0734

گا۔ رہوں۔ تکتا کو راہوں تیری اور گا رہوں خیال محو میں ہدایات تیری میں

16	בְּחֻקֹתֶיךָ تیرے-فرائض-میں	אֲשַׁתְּעֶשֶׂע خوش-ہوں-گا	לֹא نہیں	אֲשַׁכַּח بھولوں-گا	דְּבָרֶךָ: تیرا-کلام
	H2708	H3808	H7911	H1697	

بھولتا۔ نہیں کلام تیرا اور ہوں ہوتا اندوز لطف سے فرمانوں تیرے میں

17	נִמְלָא احسان-کر	עָלַי- پر	עֲבַדְךָ اپنے-بندے	אֶחְיֶה زندہ-ریوں	וְאֲשַׁמְרָה اور-مانوں	דְּבָרֶךָ: تیرا-کلام
	H1580	H5650	H2421	H8104	H1697	

گزاروں۔ زندگی مطابق کے کلام تیرے اور رہوں زندہ میں تاکہ کر بھلائی سے خادم اپنے

18	יָלַ- کھول	עֵינֵי میری-آنکھیں	וְאֲבִיטָה اور-دیکھوں	נִפְלְאוֹת عجائب	מִתּוֹרֹתֶיךָ: تیری-شریعت-سے
	H1540	H5027	H6381	H8451	

دیکھوں۔ عجائب کے شریعت تیری تاکہ کھول کو آنکھوں میری

19	יָרָ- مسافر	אֲנֹכִי ہوں-میں	בְּאֶרֶץ زمین-پر	אֶל- نہ	תִּסְתָּר چھپا	מִמִּצְוֹתֶיךָ: تیرے-احکام
	H1616	H0595	H0776	H0408	H5641	H4687

رکھانہ چھپائے سے مجھ احکام اپنے ہوں۔ ہی پردیسی میں دنیا

20	נְרָסָה	נִפְשִׁי	לְתַאבְּהָ	אֶל-	מִשְׁפָּטֶיךָ	בְּכָל-	עֵת:
	ٹوٹ-گیا	میرا-جی	چاہت-سے	کی-طرف	تیری-عدالتوں	ہر	وقت
	H1638	H5315	H8375	H0413	H4941	H3605	H6256

ہے۔ ربی ہو نڈھال کرتے کرتے آرزو کی ہدایات تیری وقت ہر جان میری

21	נְעֻרָתִי	זְרִים	אֲרוּרִים	הַשָּׁמַיִם	מִמְצֹנְתֶיךָ:
	ڈانٹا-ٹو-نے	مغروروں-کو	ملعون	جو-بھنکتے-ہیں	تیرے-احکام-سے
	H1605	H2086	H0779	H7686	H4687

ہیں! جاتے بھٹک سے احکام تیرے جو لعنت پر اُن ہے۔ ڈانٹتا کو مغروروں ٹو

22	נָלָ	מַעְלֵי	חַרְפָּה	נְבוּז	כִּי	עֲדִיתֶיךָ	נִצְרָתִי:
	بنا	مجھ-سے	طعنہ	اور-حقارت	کیونکہ	تیری-شہادتوں-کو	میں-نے-مانا
	H1556	H2781	H0937				H5341

ہوں۔ رہا تابع کے احکام تیرے میں کیونکہ دے، ربائی سے تحقیر اور توبین کی لوگوں مجھے

23	גָם	יִשְׁבוּ	שָׂרִים	כִּי	נְדָבְרוּ	עֲבָדֶיךָ	יְשִׁיחַ	בְּחֻקֶיךָ:
	اگرچہ	بیٹھے	حاکم	میرے-خلاف	بولتے-رہے	تیرا-بندہ	غور-کرتا-ہے	تیرے-فرائض-پر
	H1571	H3427	H8269		H1696	H5650	H7878	H2706

ہے۔ رہتا خیال محو میں احکام تیرے خادم تیرا ہیں، گئے بیٹھ لئے کے باندھنے منصوبے خلاف میرے بزرگ گو

24	גָם-	עֲדִיתֶיךָ	שִׁעֲשִׁעֵי	אֲנָשִׁי	עֲצָתִי:
	بھی	تیری-شہادتیں	میری-خوشی	میرے-مشیر	ہیں
	H1571		H8191	H0376	H6098

ہیں۔ مشیر میرے وہی ہوں، اُنھاتا لطف میں ہی سے احکام تیرے

25	דְּבַקָה	לְעֹפָר	נִפְשִׁי	חַיִּי	כְּדָבָרְךָ:
	چپکی	خاک-سے	میری-جان	زندہ-کر-مجھے	اپنے-کلام-کے-مطابق
	H1692	H6083	H5315	H2421	H1697

کر۔ دم تازہ کو جان میری مطابق کے کلام اپنے ہے۔ گئی دب میں خاک جان میری

26	דִּרְכֵי	סִפְרֵי	וְתַעֲנִי	לְמַדְנִי	חֻקֶיךָ:
	میری-راہیں	بیان-کیں	اور-جواب-دیا-ٹو-نے	سکھا-مجھے	تیرے-فرائض
	H1870			H3925	H2706

سکھا۔ احکام اپنے مجھے سنی۔ میری نے ٹو تو کیں بیان راہیں اپنی نے میں

27	דֶּרֶךְ-	פְּקוּדֶיךָ	הַבִּינִי	אֲשִׁיחָה	בְּנִפְלְאוֹתֶיךָ:
	راہ	تیرے-احکام-کی	سمجھا-مجھے	اور-غور-کروں-گا	تیرے-عجائب-پر
	H1870	H6490	H0995	H7878	H6381

رہوں۔ خیال محو میں عجائب تیرے تاکہ بنا قابل کے سمجھنے راہ کی احکام اپنے مجھے

28	דִּלְפָה	נִפְשִׁי	מִתּוֹנָה	קִיְמוּנִי	כְּדָבָרְךָ:
	پگھل-گئی	میری-جان	غم-سے	مضبوط-کر-مجھے	اپنے-کلام-کے-مطابق
	H1811	H5315	H8424		H1697

دے۔ تقویت مطابق کے کلام اپنے مجھے ہے۔ گئی ہو نڈھال مارے کے ڈکھ جان میری

29	דֶּרֶךְ-	שִׁקָר	הֶסֶר	מִנְיָ	וְתוֹרָתֶךָ	חֲנּוּנִי:
	راہ	جھوٹ-کی	دور-کر	مجھ-سے	اور-اپنی-شریعت	عطا-کر-مجھے
	H1870	H8267	H5493		H8451	

نواز سے شریعت اپنی مجھے اور رکھ دُور سے مجھ راہ کی فریب

30	דָּרָךְ - راہ	אָמוּנָה سچائی-کی	בְּחֵרָתִי چنا-میں-نے	מִשְׁפָּטֶיךָ تیری-عدالتیں	שְׁוִיתִי: رکھیں-میں-نے
	H1870	H0530	H0977	H4941	

ہیں-رکھے سامنے اپنے آئین تیرے کے کر اختیار راہ کی وفا نے میں

31	דְּבַקְוֹתֵי چمٹ-گیا	בְּעֵדוּתֶיךָ تیری-شہادتوں-سے	יְהוָה یہوواہ	אֵל- نہ	תְּבִישֵׁנִי: شرمندہ-کر-مجھے
	H1692	H5715	H3068	H0408	H0954

دے-ہونے نہ شرمندہ مجھے رب، اے ہوں- رہتا لپٹا سے احکام تیرے میں

32	דָּרָךְ - راہ-پر	מִצְוֹתֶיךָ تیرے-احکام-کی	אֲרוּץ دوڑوں-گا	כִּי کیونکہ	תִּרְחִיב وسیع-کرے-گا-تُو	לִבִּי: میرا-دل
	H1870	H4687	H7323		H7337	

ہے-بخشی کشادگی کو دل میرے نے تُو کیونکہ ہوں، دوڑتا پر راہ کی فرمائوں تیرے میں

33	הוֹרַנִי سکھا-مجھے	יְהוָה یہوواہ	דָּרָךְ راہ	חֻקֶיךָ تیرے-فرائض-کی	וְאֲצִרְנָה اور-مانوں-گا-اسے	עֵקֶב: آخر-تک
	H3068	H1870		H2706	H5341	H6118

گا-کروں عمل پر اُن بھر عمر میں تو سکھا راہ کی آئین اپنے مجھے رب، اے

34	הִבִּינִי سمجھا-مجھے	וְאֲצִרְנָה اور-مانوں	תּוֹרַתְךָ تیری-شریعت	וְאֲשַׁמְרְנָה اور-حفاظت-کروں-گا-اس-کی	בְּכָל- سارے	לִבִּי: دل-سے
	H0995	H5341	H8451	H8104	H3605	

ہوں-تابع کے اُس سے دل پورے اور گزاروں زندگی مطابق کے شریعت تیری تاکہ کر عطا سمجھ مجھے

35	הִדְרִיכֵנִי چلا-مجھے	בְּנֵתִיב راستے-پر	מִצְוֹתֶיךָ تیرے-احکام-کے	כִּי- کیونکہ	בּוֹ اس-میں	חֶפְצֵי: خوش-ہوا-میں
	H1869		H4687			

ہوں-کرتا پسند میں یہی کیونکہ کر، راہنمائی میری پر راہ کی احکام اپنے

36	הִטָּ - جھکا	לִבִּי میرا-دل	אֵל- کی-طرف	עֵדוּתֶיךָ تیری-شہادتوں	וְאֵל- اور-نہ	בְּצַע: لاچ
	H5186	H0413	H0413	H5715	H0408	H1215

کر-مائل طرف کی فرمانوں اپنے اُسے بلکہ دے نہ آنے میں لالچ کو دل میرے

37	הֶעֱבֵר موڑ	עֵינֵי میری-آنکھیں	מִרְאֹת دیکھنے-سے	שׂוֹא باطل	בְּדַרְכֶּךָ اپنی-راہ-میں	חִינֵי: زندہ-کر-مجھے
		H7200	H7723	H1870	H2421	

کر-دم تازہ کو جان میری کر سنبھال پر راہوں اپنی مجھے اور لے، پھیر سے چیزوں باطل کو آنکھوں میری

38	הִקָּם قائم-کر	לְעֵבְרָךָ اپنے-بندے-کے-لیے	אִמְרָתְךָ اپنا-کلام	אֲשָׁר جو	לִירְאָתְךָ: تیرے-خوف-کے-لیے-ہے
		H5650			H3374

مانیں-خوف تیرا لوگ تاکہ کر پورا وہ کیا سے خادم اپنے نے تُو وعدہ جو

39	הֶעֱבֵר دور-کر	חֲרָפְתִי میری-رسوائی	אֲשָׁר جس-سے	יָזַרְתִּי ڈرا-میں	כִּי کیونکہ	מִשְׁפָּטֶיךָ تیری-عدالتیں	טוֹבִים: اچھے-ہیں
		H2781		H3025		H4941	

ہیں۔ اچھے احکام تیرے کیونکہ کر، دُور خطرہ کا اُس بے خوف مجھے سے رُسوائی جس

40	הַנְּהִי	תְּאַבְרִי	לְפָקְדֶיךָ	בְּדַרְכֶּךָ:	תִּנְנִי:
	دیکھ	چاہا-میں نے	تیرے-احکام-کو	اپنی-راستبازی-میں	زندہ-کر-مجھے
	H2009	H8373	H6490	H6666	H2421

کردم تازہ کو جان میری سے راستی اپنی ہوں، آرزومند شدید کا بدايات تیری مَیں

41	וַיְבַאֲנִי	חֲסִדֶךָ	יְהוָה	הַנְּשׁוּעָתֶךָ	כְּאִמְרָתֶךָ:
	اور-آئے-مجھ-پر	تیری-رحمت	بہوواہ	تیری-نجات	تیرے-کلام-کے-مطابق
	H0935	H3068	H8668		

پہنچے تک مجھ بے کیا نے تُو وعدہ کا جس نجات وہ اور شفقت تیری رب، اے

42	וְאַעֲנֶה	חֲרָפִי	דְּבָר	כִּי-	כְּבַטְחֹתִי	בְּדַרְכֶּךָ:
	اور-جواب-دوں-گا	طعنہ-دینے-والے-کو	بات	کیونکہ	بھروسہ-کیا-میں-نے	تیرے-کلام-پر
		H1697	H1697		H0982	H1697

ہوں۔ رکھتا بھروسا پر کلام تیرے مَیں کیونکہ سکوں۔ دے جواب کو والے کرنے بے عزتی مَیں تاکہ

43	וְאַל-	תִּצְלַ	מִפִּי	דְּבַר-	אֲמַת	עַד-	מֵאֲדָר	כִּי	לְמַשְׁפַּחֶךָ	יַחֲלֹתִי:
	اور-نہ	چھین	میرے-منہ-سے	کلام	سجائی-کا	تک	بالکل	کیونکہ	تیری-عدالت-کے-لیے	انتظار-کیا-میں-نے
	H0408	H5337	H6310	H1697	H0571	H5704	H3966		H4941	H3176

ہوں۔ میں انتظار کے فرمانوں تیرے مَیں کیونکہ چھین، نہ کلام کا سجائی سے منہ میرے

44	וְאַשְׁמְרָה	תּוֹרָתֶךָ	תְּמִיד	לְעוֹלָם	וְעַד:
	اور-مانوں-گا	تیری-شریعت	بمیشہ	بمیشہ	اور-ابد-تک
	H8104	H8451	H8548	H5769	H5703

گا۔ رہوں قائم میں اُس تک ابد سے اب گا، کروں پیروی کی شریعت تیری وقت ہر مَیں

45	וְאַתְחַלֵּךְ	בְּרַחֲבָהּ	כִּי	פָקְדֶיךָ	דְּרָשׁוֹתִי:
	اور-چلوں-گا	آزادی-میں	کیونکہ	تیرے-احکام	ڈھونڈے-میں-نے
	H1980	H7342		H6490	H1875

ہوں۔ رہتا طالب کا آئین تیرے کیونکہ گا، پھروں چلتا میں میدان کھلے مَیں

46	וְאַדְבִּירָה	בְּעֵדוּתֶיךָ	נֶגְד	מְלָכִים	וְלֹא	אֲבוֹשׁ:
	اور-بولوں-گا	تیری-شہادتوں-کے-بارے-میں	سامنے	بادشاہوں-کے	اور-نہیں	شرمندہ-ہوں-گا
	H1696	H5048	H4428	H3808	H0954	

گا۔ کروں بیان احکام تیرے سامنے کے بادشاہوں بغیر کئے شرم مَیں

47	וְאַשְׁתַּעֲשֵׂעַ	בְּמִצְוֹתֶיךָ	אֲשֶׁר	אָהַבְתִּי:
	اور-خوش-ہوں-گا	تیرے-احکام-میں	جن-سے	محبت-کی-میں-نے
		H4687		H0157

ہیں۔ پیارے مجھے وہ ہوں، ہوتا اندوز لطف سے فرمانوں تیرے مَیں

48	וְאַשְׂא-	כְּפִי	אֶל-	מִצְוֹתֶיךָ	אֲשֶׁר	אָהַבְתִּי	וְאַשְׁיחָה	בְּחֻקֶיךָ:
	اور-اٹھاؤں-گا	باتھ	کی-طرف	تیرے-احکام	جن-سے	محبت-کی-میں-نے	اور-غور-کروں-گا	تیرے-فرائض-پر
	H5375	H3709	H0413	H4687		H0157	H7878	H2706

گا۔ رہوں خیال محو میں بدايات تیری مَیں ہیں۔ پیارے مجھے وہ کیونکہ گا، اٹھاؤں طرف کی فرمانوں تیرے باتھ اپنے مَیں

49	זָכַר-	דְּבָר	לְעֵבְדֶךָ	עָל	אֲשֶׁר	יַחֲלֹתִי:
	یاد-رکھ	کلام	اپنے-بندے-کے-لیے	جس-پر	جس-سے	امید-دلانی-ٹو-نے
	H2142	H1697	H5650			H3176

بے-دلانی امید مجھے نے تو سے جس اور کی سے خادم اپنے نے تو جو رکھ خیال کا بات اُس

50	זָאת	נַחֲמֵנִי	בְּעֵינַי	כִּי	אִמְרַתְךָ	חֲתִינִי:
	یہ	میری-تسلی-بے	میری-مصیبت-میں	کیونکہ	تیرے-کلام-نے	زندہ-کیا-مجھے
	H2063	H5165	H6040			H2421

بے-کرتا دم تازہ کو جان میری کلام تیرا کہ بے ربا باعث کا تسلی یہی میں مصیبت

51	זָדִים	הֶלְיִצְנִי	עַד-	מָאֵד	מִתּוֹרַתְךָ	לֹא	נִטִּיתִי:
	مغروروں-نے	ٹھنھا-کیا-مجھ-پر	تک	بہت	تیری-شریعت-سے	نہیں	مزا-میں
	H2086	H3887	H5704	H3966	H8451	H3808	H5186

ہوتا۔نہیں دُور سے شریعت تیری میں لیکن ہیں، اُڑاتے مذاق زیادہ سے حد میرا مغرور

52	זְכָרְתִּי	מִשְׁפָּטֶיךָ	וּמַעֲוָלָם	יְהוָה	נֶאֱמַרְנָהּ:
	یاد-کیا-میں-نے	تیری-عدالتوں-کو	قدیم-سے	یہوواہ	اور-تسلی-پائی
	H2142	H4941	H5769	H3068	H5162

بے-ملتی تسلی مجھے تو ہوں کرتا یاد فرمان قدیم تیرے میں رب، اے

53	זִלְעָפָה	אֶחָזְתָּנִי	מִרְשָׁעִים	עֲזָבִי	תּוֹרַתְךָ:
	جلن	پکڑ-لیا-مجھے	شریروں-سے	چھوڑنے-والوں	تیری-شریعت-کو
	H2152	H0270	H7563	H8451	

بے-کیا ترک کو شریعت تیری نے انہوں کیونکہ ہوں، جاتا ہو بگولا آگ میں کر دیکھ کو بے دینوں

54	זְמֵרוֹת	הָיוּ-	לִי	חֲקִיךָ	בְּבֵית	מִגֹּדְרִי:
	گیت	ہوئے	میرے-لیے	تیرے-فرائض	گھر-میں	میری-مسافرت-کے
	H2158	H1961		H2706		H4033

ہوں-رہتا گاتا گیت کے احکام تیرے میں میں اُس ہوں پردیسی میں میں گھر جس

55	זְכָרְתִּי	בַּלַּיְלָה	שָׁמַרְךָ	יְהוָה	אֶשְׁמְרָה	תּוֹרַתְךָ:
	یاد-کیا-میں-نے	رات-کو	تیرا-نام	یہوواہ	اور-مانا-میں-نے	تیری-شریعت
	H2142	H3915	H8034	H3068	H8104	H8451

ہوں-رہتا کرتا عمل پر شریعت تیری ہوں، کرتا یاد نام تیرا میں کو رات رب، اے

56	זָאת	הִיטָדָה-	לִי	כִּי	פָקַדְתָּ	נִצְרָתִי:
	یہ	ہوا	میرا	کیونکہ	تیرے-احکام	مانے-میں-نے
	H2063	H1961		H6490	H5341	

ہوں-کرتا پیروی کی آئین تیرے میں کہ بے بخشش تیری یہ

57	חֲלָקִי	יְהוָה	אָמַרְתִּי	לְשֹׁמֵר	דְּבָרֶיךָ:
	میرا-حصہ	یہوواہ	کہا-میں-نے	ماننے-کو	تیرے-کلام
		H3068	H0559	H8104	H1697

بے-کیا وعدہ کا کرنے عمل پر فرمانوں تیرے نے میں بے-میراث میری رب

58	חֲלִיתִי	פָּנֶיךָ	בְּכָל-	לֵב	חֲזָנִי	כְּאִמְרַתְךָ:
	منت-کی-میں-نے	تیرے-چہرے-کی	سارے	دل-سے	رحم-کر-مجھ-پر	اپنے-کلام-کے-مطابق
		H6440	H3605			

کر-مہربانی پر مجھ مطابق کے وعدے اپنے ہوں- ربا طالب کا شفقت تیری سے دل پورے میں

59	חֲשָׁבְתִּי	דָּרְכֶךָ	וְאִשְׁיָבָה	רַגְלִי	אֶל-	עֲדֹתֶיךָ:
	سوچا-میں-نے	اپنی-راہوں-پر	اور-موڑے-میں-نے	اپنے-قدم	کی-طرف	تیری-شہادتوں
	H2803	H1870	H7725	H7272	H0413	

ہیں۔ بڑھائے قدم طرف کی احکام تیرے کر دے دھیان پر رابوں اپنی نے میں

60 **חֲשׂוֹנֵי וְלֹא הִתְמַהְמְהוּ לְשׂוֹר מִצְוֹתָי:**
جلدی-کی-میں-نے اور-نہیں اور-کی مانے-کو تیرے-احکام
H3808 H4102 H8104 H4687

ہوں۔ کرتا کوشش کی کرنے عمل پر احکام تیرے کر بھاگ بلکہ جھجکتا نہیں میں

61 **חֲבָלֵי רִשְׁעִים עוֹדְנֵי אֶזְרָתָךְ לֹא שִׁכַּחְתִּי:**
رسیاں شریروں-کی گھیرا-مجھے تیری-شریعت نہیں بھولا-میں
H7563 H8451 H3808 H7911

بھولتا۔ نہیں شریعت تیری میں لیکن ہے، لیا جکڑ مجھے نے رسوں کے بے دینوں

62 **חֲצוֹת-לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לְךָ עַל מִשְׁפָּטֵי צְדָקָתְךָ:**
آدھی رات-کو اٹھتا-ہوں شکر-کرنے تیرا پر تیری-عدالتوں راست-کی
H2676 H3915 H3034 H6664 H4941

کروں۔ شکر تیرا لے کے فرمانوں راست تیرے تاکہ ہوں اٹھتا جاگ میں کو رات آدھی

63 **חֲבֵר אָנִי לְכָל-אִשָּׁר יִרְאוּךָ וְלְשׂוֹנֵי פְקוּדֹתָ:**
ساتھی ہوں-میں سب-کا جو ڈرتے-ہیں-تجھ-سے اور-مانے-والوں-کا تیرے-احکام
H2270 H0589 H3605 H3372 H8104 H6490

ہیں۔ کرتے عمل پر ہدایات تیری جو دوست کا سب ان ہیں، ماننے خوف تیرا جو ہوں ساتھی کا سب ان میں

64 **חֲסִדָּתְךָ יְהוָה מוֹלָאָה הָאָרֶץ חֲקִיךָ לְמִדְנֵי:**
تیری-رحمت-سے یہوواہ بھری-ہے زمین تیرے-فرائض سکھا-مجھے
H3068 H4390 H0776 H2706 H3925

سکھا! احکام اپنے مجھے ہے۔ معمور سے شفقت تیری دنیا رب، اے

65 **טוֹב עֲשִׂיתָ עִם-עַבְדְּךָ יְהוָה כִּדְבָרְךָ:**
بھلائی کی-ٹو-نے ساتھ اپنے-بندے-کے یہوواہ اپنے-کلام-کے-مطابق
H5650 H3068 H1697

ہے۔ کی بھلائی سے خادم اپنے مطابق کے کلام اپنے نے ٹو رب، اے

66 **טוֹב טַעַם וְנִדְעַת לְמִדְנֵי כִי בְּמִצְוֹתָי הֵאֱמַנְתִּי:**
اچھی سمجھ اور-علم سکھا-مجھے کیونکہ تیرے-احکام-پر ایمان-لایا-میں
H2898 H2940 H1847 H3925 H4687 H0539

ہوں۔ رکھتا ایمان پر احکام تیرے میں کیونکہ سکھا، عرفان اور امتیاز صحیح مجھے

67 **טִירָם אֶעֱנֶה אָנִי שִׁנְנָה אֶמְרָתְךָ נְשִׁמְרָתִי:**
پہلے جب-دکھ-پایا میں بھٹکتا-تھا لیکن-اب تیرا-کلام مانتا-ہوں
H2962 H0589 H7683 H6258 H8104

ہوں۔ رہتا تابع کے کلام تیرے میں اب لیکن تھا، پھرتا آوارہ میں گیا کیا پست مجھے کہ پہلے سے اس

68 **טוֹב-אֶתָּה וַיִּמְנִיב אֶתָּה אֶתָּה:**
اچھا ہے-ٹو اور-بھلائی-کرنے-والا سکھا-مجھے تیرے-فرائض
H2895 H3925 H2706

سکھا! آئین اپنے مجھے ہے۔ کرتا بھلائی اور بے بھلا ٹو

69 **טַפְלוֹ גְּהָזָה עָלַי שָׁקַר זָדִים אֲנִי בְּכָל-דְּלִי אֶצְרֶה פְּקוּדֹתָ:**
گھڑا میرے-خلاف جھوٹ مغروروں-نے میں سارے دل-سے مانوں-گا تیرے-احکام
H2950 H8267 H2086 H0589 H3605 H5341 H6490

ہوں۔ کرتا برداری فرماں کی ہدایات تیری سے دل پورے میں لیکن ہے، اچھالی کیچڑ پر مجھ کر بول جھوٹ نے مغروں

70	טַפְּסָה	כַּחֲלָב	לִבִּים	אֲנִי	תּוֹרַתְךָ	שְׂשׂוּעָתִי:
	موٹا-ہو-گیا	چربی-کی-طرح	اُن-کا-دل	میں	تیری-شریعت-میں	خوش-ہوا
	H2954	H2459		H0589	H8451	

ہوں۔ ہوتا اندوز لطف سے شریعت تیری میں لیکن ہیں، گئے ہو بے حس کر اکڑ دل کے اُن

71	טוֹב-	לִי	כִּי-	עֲנִיתִי	לְזַעַן	אֶלְמֹד	חֲקִיךָ:
	اچھا-ہوا	میرے-لیے	کہ	دکھ-پایا-میں-نے	تاکہ	سیکھوں	تیرے-فرانض
				H4616	H3925	H2706	

لئے۔ سیکھ احکام تیرے نے میں طرح اس کیونکہ گیا، کیا پست مجھے کہ تھا اچھا لئے میرے

72	טוֹב-	לִי	תּוֹרַת-	פִּיךָ	מֵאֲלֵפִי	זָהָב	נִכְסֶיךָ:
	بہتر-ہے	میرے-لیے	شریعت	تیرے-منہ-کی	ہزاروں-سے	سونے	اور-چاندی-کے
			H8451	H6310	H0505	H2091	H3701

ہے۔ پسند زیادہ سے سیکوں ہزاروں کے چاندی سونے مجھے وہ ہے ہوئی صادر سے منہ تیرے شریعت جو

73	יְרִיךָ	עֲשׂוּנִי	וְיִכְוֶנּוּנִי	הִבִּינִי	וְאֶלְמֹדָה	מִצְוֹתֶיךָ:
	تیرے-ہاتھوں-نے	بنایا-مجھے	اور-قائم-کیا	سمجھا-مجھے	اور-سیکھوں	تیرے-احکام
	H3027			H0995	H3925	H4687

لوں۔ سیکھ احکام تیرے تاکہ فرما عطا سمجھ مجھے ہے۔ دیا رکھ پر بنیاد مضبوط کر بنا مجھے نے ہاتھوں تیرے

74	יְרִיךָ	יְרִאֹנִי	יְרִאֹנִי	וְיִשְׁמַחוּ	כִּי	לְדַבְּרֶךָ	יַחֲלִתִּי:
	جو-تجھ-سے-ڈرتے-ہیں	دیکھیں-گے-مجھے	اور-خوش-ہوں-گے	اور-خوش-ہوں-گے	کیونکہ	تیرے-کلام-پر	انتظار-کیا-میں-نے
	H3373	H7200	H8055	H1697	H1697	H3176	

ہوں۔ رہتا میں انتظار کے کلام تیرے میں کیونکہ جائیں، ہو خوش کر دیکھ مجھے وہ ہیں مانتے خوف تیرا جو

75	יְרִעָתִי	יְהוָה	כִּי-	צֶדֶק	מִשְׁפָּטֶיךָ	אֶמְוֶנָה	עֲנִיתִנִּי:
	جانتا-ہوں-میں	یہوواہ	کہ	راست	تیری-عدالتیں-ہیں	اور-وفاداری-سے	دکھ-دیا-ٹو-نے-مجھے
	H3045	H3068		H6664	H4941	H0530	

ہے۔ کیا پست مجھے نے ٹو کہ ہے اظہار کا وفاداری تیری بھی یہ ہیں۔ راست فیصلے تیرے کہ ہے لیا جان نے میں رب، اے

76	יְהִי-	נָא	חַסְדֶּךָ	לְנַחֲמֵנִי	כְּאִמְרַתְךָ	לְעַבְדֶּךָ:
	ہو	مہربانی-سے	تیری-رحمت	تسلی-دینے-والی-میری	تیرے-کلام-کے-مطابق	اپنے-بندے-کے-لیے
	H1961	H4994		H5162	H5650	

ہے۔ کیا وعدہ سے خادم اپنے نے ٹو طرح جس دے، تسلی مجھے شفقت تیری

77	יְבִאֲנִי	רַחֲמֶיךָ	וְאֶחֱיָה	כִּי-	תּוֹרַתְךָ	שְׂשׂוּעָתִי:
	آئے-مجھ-پر	تیری-رحمتیں	اور-جیوں	کیونکہ	تیری-شریعت	میری-خوشی-ہے
	H0935	H2421		H8451	H8191	

ہوں۔ ہوتا اندوز لطف سے شریعت تیری میں کیونکہ آئے، جان میں جان میری تاکہ کر اظہار کا رحم اپنے پر مجھ

78	יְצַו	זְרִים	כִּי-	שָׁקַר	עֲוֹנוֹנִי	אֲנִי	כַּפְקוּדֶיךָ:
	شرمندہ-ہوں	مغروں	کیونکہ	جھوٹ-سے	بگاڑا-مجھے	میں	تیرے-احکام-پر
	H0954	H2086		H8267	H5791	H0589	H6490

گا۔ رہوں خیال محو میں فرمانوں تیرے میں لیکن جائیں۔ ہو شرمندہ وہ ہیں رہے کر پست سے جھوٹ مجھے مغروں جو

79	יְשׁוּבוּ	לִי	יְרִאֹנִי	וְיִדְעוּ	(וְיָדְעוּ)	עֲדֹתֶיךָ:
	پہریں	میری-طرف	جو-تجھ-سے-ڈرتے-ہیں	اور-جاننے-والے	جاننے-والے	تیری-شہادتوں-کو
	H7725		H3373	H3045	H3045	

آئیں۔ واپس پاس میرے وہ ہیں جانتے احکام تیرے اور مانتے خوف تیرا جو کاش

80	יְהִי- בו	לְבִי میرا-دل	תָּמִים کامل	בְּחֻקְךָ تیرے-فرائض-میں	לְמַעַן تاکہ	לֹא نہ	אֶבְדֶּשׁ: شرمندہ-ہوں
	H1961	H8549	H2706	H4616	H3808	H0954	

جائے۔ ہو نہ رُسوائی میری تاکہ رہے بے الزام میں کرنے پیروی کی آئین تیرے دل میرا

81	כְּלִתָּה تڑپ-رہی-ہے	לְתִשׁוּעָתְךָ تیری-نجات-کے-لیے	נַפְשִׁי میری-جان	לְדַבְּרֶךָ تیرے-کلام-پر	יְחַלְתִּי: انتظار-کیا-میں-نہے
	H3615	H8668	H5315	H1697	H3176

ہوں۔ میں انتظار کے کلام تیرے میں ہے، رہی ہو نڈھال کرتے کرتے آرزو کی نجات تیری جان میری

82	כָּלֹו تھک-گئیں	עֵינַי میری-آنکھیں	לְאִמְרָתְךָ تیرے-کلام-کے-لیے	לְאִמֹר کہتے-ہوئے	מָתִי کب	תִּנְחַמְנִי: تسلی-دے-گا-تُو-مجھے
	H3615	H0559	H4970	H5162	H3176	

گا؟ دے تسلی کب مجھے تُو ہیں۔ رہی ڈھنڈلا دیکھتے دیکھتے راہ کی وعدے تیرے آنکھیں میری

83	כִּי- کیونکہ	הִייתי بو-گیا	כְּנֹאד مشکیزے-کی-طرح	בְּקִיטֹור دھوئیں-میں	חֻקְךָ تیرے-فرائض	לֹא نہیں	שְׂכַחְתִּי: بھولا-میں
	H1961	H4997	H7008	H2706	H3808	H7911	

بھولتا۔ نہیں کو فرمانوں تیرے لیکن ہوں مانند کی مشک ہوئی سکوڑی میں دھوئیں میں

84	כִּמְהָ کتنے	יָמַי- دن	עֲבָדְךָ تیرے-بندے-کے	מָתִי کب	תַּעֲשֶׂה کرے-گا-تُو	בְּרַדְפִּי میرے-ستانے-والوں-پر	מִשְׁפָּט: عدالت
	H4100	H3117	H5650	H4970	H7291	H4941	

گا؟ کرے کب عدالت کی والوں کرنے تعاقب میرا تُو گا؟ پڑے کرنا انتظار دیر کتنی مزید کو خادم تیرے

85	כָּרוֹ- کھودے	לִי میرے-لیے	זְרִים مغروروں-نے	שִׁיחֹות گڑھے	אֲשֶׁר جو	לֹא نہیں	כְּתוֹרָתְךָ: تیری-شریعت-کے-مطابق
	H2086	H7882	H3808	H8451			

ہیں۔ لئے کھود گڑھے لئے کے پھنسانے مجھے نے انہوں ہوتے نہیں تابع کے شریعت تیری مغرور جو

86	כָּל- سب	מִצְוֹתֶיךָ تیرے-احکام	אֲמוּנָה سچائی-ہیں	שֶׁקֶר جھوٹ-سے	רַדְפוּנִי ستایا-مجھے	עֲזָרְנִי: مدد-کر-میری
	H3605	H4687	H0530	H8267	H7291	H5826

ہیں۔ رہے کر تعاقب میرا کر لے سہارا کا جھوٹ وہ کیونکہ کر، مدد میری ہیں۔ پُروفا احکام تمام تیرے

87	כְּמַעַט تقریباً	כְּלוּנִי مٹایا-مجھے	בְּאֶרֶץ زمین-پر	אֲנִי اور-میں-نے	לֹא- نہیں	עֲזָבְתִי چھوڑے	פְּקוּדֶיךָ: تیرے-احکام
	H4592	H3615	H0776	H0589	H3808	H6490	

کیا۔ نہیں ترک کو آئین تیرے نے میں لیکن ہیں، ہی قریب کے مٹانے سے پر زمین زوئے مجھے وہ

88	כַּחֲסָדְךָ اپنی-رحمت-کے-مطابق	חַיִּי زندہ-کر-مجھے	אֲשַׁמְּרָה اور-مانوں-گا	עֲדוּת شہادت	פִּיךָ: تیرے-منہ-کی
	H2421	H8104	H5715	H6310	

کروں۔ عمل پر فرمانوں کے منہ تیرے تاکہ کر دم تازہ کو جان میری کے کر اظہار کا شفقت اپنی

89	לְעוֹלָם بمیشہ-سے	יְהוּוָה یہوواہ	דְּבָרְךָ تیرا-کلام	נִצָּב قائم	בְּשָׁמַיִם: آسمانوں-میں
	H5769	H3068	H1697	H5324	H8064

ہے۔ دائم و قائم پر آسمان تک ابد کلام تیرا رب، اے

90 **לְדָר** **וְדָר** **אֲמוֹנָתְךָ** **כּוֹנֵנֶת** **אֶרֶץ** **וְתַעֲמֹד:**
پشت-در-پشت اور-پشت تیری-وفاداری قائم-کی-ٹو-نے زمین اور-قائم-ہے
H1755 H1755 H0530 H0776 H5975

ہے۔ رہتی برقرار وہیں کی وہیں وہ اور رکھی، بنیاد کی زمین نے ٹو ہے۔ رہتی پشت در پشت وفاداری تیری

91 **לְמוֹשֶׁפֶּט** **עֲמֻדוֹ** **הַיּוֹם** **כִּי** **הַכֹּל** **עֲבָדֶיךָ:**
تیری-عدالتوں-کے-لیے قائم-ہیں آج کیوںکہ سب تیرے-خادم-ہیں
H4941 H5975 H3117 H3605 H5650

ہیں۔ گئی بنائی لئے کے کرنے خدمت تیری چیزیں تمام کیوںکہ ہیں، رہتے حاضر لئے کے کرنے پورا کو فرمانوں تیرے زمین و آسمان تک آج

92 **לוֹלִי** **תּוֹרַתְךָ** **שְׁשֻׁעִי** **אֲז** **אֲבֹרְתִי** **בְּעֵנַי:**
اگر-نہ-ہوتی تیری-شریعت میری-خوشی تب ہلاک-ہو-جاتا اپنی-مصیبت-میں
H3884 H8451 H8191 H0006 H6040

ہوتا۔ گیا ہو ہلاک میں مصیبت اپنی میں تو ہوتی نہ خوشی میری شریعت تیری اگر

93 **לְעוֹלָם** **לֹא-** **אֲשַׁכַּח** **פְּקוּדֶיךָ** **כִּי** **זָכֹם** **חַיִּיתִנִּי:**
بمیشہ نہیں بھولوں-گا تیرے-احکام کیوںکہ اُن-سے زندہ-کیا-ٹو-نے-مجھے
H5769 H3808 H7911 H6490 H2421

ہے۔ کرتا دم تازہ کو جان میری ٹو ذریعے کے ہی اُن کیوںکہ گا، بھولوں نہیں کبھی ہدایات تیری میں

94 **לְךָ-** **אָנִי** **הוֹשִׁיעֵנִי** **כִּי** **פְּקוּדֶיךָ** **דָּרַשְׁתִּי:**
تیرا ہوں-میں بچا-مجھے کیوںکہ تیرے-احکام ڈھونڈے-میں-نے
H0589 H3467 H6490 H1875

ہوں۔ رہا طالب کا احکام تیرے میں کیوںکہ بچا! مجھے ہوں، ہی تیرا میں

95 **לִי** **קִוֵּי** **רְשָׁעִים** **לְאֲבֹדֵנִי** **עֲדוֹתֶיךָ** **אֲתַבּוֹנֵן:**
میرے-لیے گھات-لگائے شریروں-نے ہلاک-کرنے-کو تیری-شہادتوں-پر غور-کروں-گا
H7563 H0006 H0995

گا۔ رہوں دیتا دھیان پر آئین تیرے میں لیکن ڈالیں، مار مجھے تاکہ میں گئے بیٹھ میں تاک میری بے دین

96 **לְכֹל** **תְּכַלָּה** **רְאִיתִי** **גִּן** **רְחֹבָה** **מִצְוֹתֶיךָ** **מְאֹד:**
ہر کمال-کی دیکھی-میں-نے انتہا وسیع-ہے تیرا-حکم بہت
H3605 H8502 H7200 H7093 H7342 H4687 H3966

ہوتی۔ نہیں حد کوئی کی فرمان تیرے لیکن ہے، ہوتی حد کی چیز کامل ہر کہ ہے دیکھا نے میں

97 **מָה-** **אֲהַבְתִּי** **תּוֹרַתְךָ** **כָּל-** **הַיּוֹם** **הִיא** **שִׂיחָתִי:**
کیا محبت-ہے-مجھے تیری-شریعت-سے سارا دن یہی میرا-خیال-ہے
H4100 H0157 H8451 H3605 H3117 H1931 H7881

ہوں۔ رہتا خیال محو میں اُس میں بھر دن ہے! پیاری کتنی مجھے شریعت تیری

98 **מֵאֵיבִי** **תְּחַכְּמֵנִי** **מִצְוֹתֶיךָ** **כִּי** **לְעוֹלָם** **הִיא-** **לִי:**
میرے-دشمنوں-سے دانا-بناتے-ہیں-مجھے تیرے-احکام کیوںکہ ہمیشہ یہی-ہے میرے-لیے
H0341 H2449 H4687 H5769 H1931

ہے۔ خزانہ میرا تک ہمیشہ وہ کیوںکہ ہے، دیتا بنا مند دانش زیادہ سے دشمنوں میرے مجھے فرمان تیرا

99 **מְכֹל-** **מְלַמְדִי** **הַשְּׂכֵלְתִי** **כִּי** **עֲדוֹתֶיךָ** **שִׂיחָה** **לִי:**
سب اپنے-استادوں-سے سمجھدار-ہوا کیوںکہ تیری-شہادتیں میرا-خیال ہیں
H3605 H3925 H5715 H7881

ہوں۔ رہتا خیال محو میں آئین تیرے میں کیونکہ ہے، حاصل سمجھ زیادہ سے اُستادوں تمام اپنے مجھے

100	מִזְבְּנִים	אֶתְבֹּנָן	כִּי	מִקְוֵיךָ	נִצְרָתִי:
	ہوڑھوں-سے	سمجھدار-ہوں	کیونکہ	تیرے-احکام	مانے-میں-نے
	H2205	H0995		H6490	H5341

ہوں۔ کرتا پیروی کی احکام تیرے سے وفاداری میں کیونکہ ہے، حاصل سمجھ زیادہ سے بزرگوں مجھے

101	מִכְלָ-	אֶרֶח	רַע	כָּל־אֲתִי	רַגְלִי	לְמַעַן	אֲשַׁמְרֶךָ	דְּבַרְךָ:
	بر	بری-راہ	سے	روکے	اپنے-قدم	تاکہ	مانوں	تیرا-کلام
	H3605	H0734		H3607	H7272	H4616	H8104	H1697

ریوں۔ لہذا سے کلام تیرے تاکہ ہے کیا گریز سے رکھنے قدم پر راہ بُری بر نے میں

102	מִמְשַׁפְּטֶיךָ	לֹא-	סָרְתִי	כִּי-	אֲתָה	הִזְרַתְנִי:
	تیری-عدالتوں-سے	نہیں	بٹا	کیونکہ	تُو-نے	سکھایا-مجھے
	H4941	H3808	H5493			

ہے۔ دی تعلیم مجھے نے ہی تُو کیونکہ ہوا، نہیں دُور سے فرمانوں تیرے میں

103	מִהַ-	נִמְלָצוּ	לְחֻכִּי	אֲמַרְתֶּךָ	מִדְּבַשׁ	לְפִי:
	کیسے	میٹھے-ہیں	میری-تالو-کو	تیرے-کلام	شہد-سے-زیادہ	میرے-منہ-کو
	H4100	H4452	H2441		H1706	H6310

ہے۔ میٹھا زیادہ سے شہد میں منہ میرے وہ ہے، لذیذ کتنا کلام تیرا

104	מִמְקוֹרֶיךָ	אֶתְבֹּנָן	עַל-	כֶּן	וּשְׁנֵאתִי	כָל-	אֶרֶח	שָׁקֵר:
	تیرے-احکام-سے	سمجھ-حاصل-کی	اس-لیے	اس-وجہ-سے	نفرت-کی-میں-نے	بر	راہ	جھوٹ-کی-سے
	H6490	H0995			H8130	H3605	H0734	H8267

ہوں۔ کرتا نفرت سے راہ ہر کی جھوٹ میں لے اس ہے، ہوتی حاصل سمجھ مجھے سے احکام تیرے

105	נֵר-	לְרַגְלִי	דְּבַרְךָ	וְאוֹר	לְנִתִּיבְתִי:
	چراغ	میرے-قدموں-کے-لیے	تیرا-کلام	اور-روشنی	میری-راہ-کے-لیے
		H7272	H1697	H0216	

ہے۔ کرتا روشن کو راہ میری جو ہے چراغ لے کے پاؤں میرے کلام تیرا

106	נִשְׁבַּעְתִּי	וְאֶקְיֶמָה	לְשִׁמְרֶךָ	מִשְׁפָּטִי	צְדָקָתְךָ:
	قسم-کھائی-میں-نے	اور-پورا-کروں-گا	مانے-کو	تیری-راست-عدالتوں-کو	تیری-راستبازی-کی
	H7650		H8104	H4941	H6664

گا۔ کروں بھی پورا وعدہ یہ میں اور گا، کروں پیروی کی فرمانوں راست تیرے کہ ہے کھائی قسم نے میں

107	נִעְנִיתִי	עַד-	מְאֹד	יְהוָה	חַיִּי	כְּדְבַרְךָ:
	دکھ-پایا-میں-نے	تک	بہت	یہوواہ	زندہ-کر-مجھے	اپنے-کلام-کے-مطابق
	H5704	H3966	H3068	H2421	H1697	

کردم تازہ کو جان میری مطابق کے کلام اپنے رب، اے ہے۔ گیا کیا پست بہت مجھے

108	נְדָבוֹת	פִּי	רִצְחָה	נָא	יְהוָה	וּמִשְׁפָּטֶיךָ	לְמִדְּנִי:
	رضاکارانہ-قربانیاں	میرے-منہ-کی	قبول-کر	مہربانی-سے	یہوواہ	اور-اپنی-عدالتیں	سکھا-مجھے
	H5071	H6310	H7521	H4994	H3068	H4941	H3925

سکھا آئین اپنے مجھے اور کر پسند کو قربانیوں رضاکارانہ کی منہ میرے رب، اے

109	נִפְשִׁי	בְּכַפִּי	תָּמִיד	וְתוֹרַתְךָ	לֹא	שָׁכַחְתִּי:
	میری-جان	ہاتھ-میں	ہمیشہ	اور-تیری-شریعت	نہیں	بھولا-میں
	H5315	H3709	H8548	H8451	H3808	H7911

بھولتا۔ نہیں شریعت تیری میں لیکن ہے، میں خطرے ہمیشہ جان میری

110	נִתְּנָה	רְשָׁעִים	פָּח	לֵי	וְמִמְקוֹרֶיהָ	לֹא	תִּעֲיִתִי:
	رکھا	شریروں نے	پھندا	میرے لیے	لیکن تیرے احکام سے	نہیں	بھٹکا
	H5414	H7563			H6490	H3808	H8582

بھٹکا۔ نہیں سے فرمانوں تیرے میں لیکن ہے، رکھا کر تیار پھندا لئے میرے نے بے دینوں

111	נִחֲלָתִי	עֲדוּתֵיךָ	לְעוֹלָם	כִּי-	שְׂשׂוֹן	לְבִי	הִמְנָה:
	میراث لی میں نے	تیری شہادتوں کو	ہمیشہ کے لیے	کیونکہ	خوشی	میرے دل کی	یہی ہیں
	H5157	H5715	H5769		H8342		H1992

بے۔ اچھلتا سے خوشی دل میرا سے اُن کیونکہ ہیں، گئے بن میراث ابدی میری احکام تیرے

112	נִמְיָתִי	לְבִי	לְעֵשׂוֹת	חֲקֹךָ	לְעוֹלָם	עֵקֶב:
	جھکایا میں نے	اپنا دل	کرنے کو	تیرے فرائض	ہمیشہ	آخر تک
	H5186			H2706	H5769	H6118

بے۔ ابدی اجر کا اس کیونکہ ہے، کیا مائل طرف کی کرنے عمل پر احکام تیرے دل اپنا نے میں

113	סֶעֱפִים	שְׁנֵאתִי	וְתוֹרַתְךָ	אֶהְבֵּתִי:
	دو دلوں سے	نفرت کی میں نے	اور تیری شریعت سے	محبت کی
	H5588	H8130	H8451	H0157

ہوں۔ کرتا محبت سے شریعت تیری لیکن نفرت سے دلوں دو میں

114	סִתְרִי	וּמִנְיָי	אֶחָה	לְדַבְרֶךָ	יִחַלָּתִי:
	میری پناہ	اور میری ڈھال	ہے تُو	تیرے کلام پر	انتظار کیا میں نے
	H4043		H1697		H3176

ہوں۔ رہتا میں انتظار کے کلام تیرے میں ہے، ڈھال میری اور گاہ پناہ میری تُو

115	סוּרוֹ-	מִמְנִי	מִרְעִים	אֶצְרָה	מִצְנַת	אֱלֹהֵי:
	دور ہو جاؤ	مجھ سے	بدکارو	اور مانوں گا	احکام	اپنے خدا کے
	H5493		H5341	H4687	H0430	

گا۔ رہوں لیٹا سے احکام کے خدا اپنے میں کیونکہ جاؤ، ہو دُور سے مجھ بدکارو، اے

116	סִמְכֵנִי	כְּאִמְרַתְךָ	וְאֶחֱיָה	וְאֵל-	תְּבִישֵׁנִי	מִשְׁכְּרִי:
	سہارا دے مجھے	اپنے کلام کے مطابق	اور جیوں	اور نہ	شرمندہ کر مجھے	میری امید سے
	H5564		H2421	H0408	H0954	H7664

جاؤں۔ ہو نہ شرمندہ تاکہ دے نہ ٹوٹنے آس میری رہوں۔ زندہ تاکہ سنبھال مجھے مطابق کے فرمان اپنے

117	סֶעֱרֵנִי	וְאִשְׁעָה	וְאִשְׁעָה	בְּחֻקֶיךָ	תְּמִיד:
	سنبھال مجھے	اور بچ جاؤں	اور دیکھوں گا	تیرے فرائض کو	ہمیشہ
	H5582	H3467	H8159	H2706	H8548

رکھوں۔ لحاظ کا آئین تیرے وقت ہر کر بچ تاکہ بن سہارا میرا

118	סִלְיָת	כָּל-	שׁוֹנִים	מִחֻקֶיךָ	כִּי-	תִּרְמִיתָם:
	رد کیا تُو نے	سب	بھٹکنے والوں کو	تیرے فرائض سے	کیونکہ	ان کا فریب ہے
	H3605		H7686	H2706		H8267

بے۔ ہی فریب بازی دھوکے کی اُن کیونکہ ہیں، بھرتے بھٹکے سے احکام تیرے جو بے کرتا رد کو سب اُن تُو

119	סִזִּים	הַשְּׁבֶתָה	כָּל-	רְשָׁעִי-	אֶרְצִי	לְכֹן	אֶהְבֵּתִי	עֲדוּתֵיךָ:
	میل کی طرح	دور کیا تُو نے	سب	شریروں کو	زمین کے	اس لیے	محبت کی میں نے	تیری شہادتوں سے
	H5509	H3605		H7563	H0776		H0157	

ہیں۔ پیارے مجھے فرمان تیرے لئے اس ہے، دیتا کر نیست کر پھینک طرح کی میل ہوئی کی خارج سے چاندی ناپاک کو بے دینوں تمام کے زمین تُو

120	סָמַר	מִפְחָדָי	בְּשָׂרִי	וּמִמְשַׁפְּטֵי	יְרֵאתִי:
	کانپا	تیرے-خوف-سے	میرا-جسم	اور-تیری-عدالتوں-سے	ڈرا-میں
	H5568	H6343	H1320	H4941	H3372

ہوں۔ ڈرتا سے فیصلوں تیرے میں اور ہے، تھرتھراتا کر کھا دہشت سے تجھ جسم میرا

121	עֲשִׂיתִי	מִשְׁפָּט	וְצַדִּיק	כָּל-	אֲנִיחֵנִי	לְעֲשָׂקִי:
	کیا-میں-نے	انصاف	اور-راستبازی	نہ	چھوڑ-مجھے	ظالموں-کو
	H4941	H6664	H1077	H3240	H6231	

ہیں۔ کرتے ظلم پر مجھ جو کر نہ حوالے کے اُن مجھے چنانچہ ہے، کیا کام بانصاف اور راست نے میں

122	עָרַב	עַבְדָּי	לְטוֹב	אֶל-	יַעֲשֶׂקֵנִי	זָרִים:
	ضامن-ہو	اپنے-بندے-کا	بھلائی-کے-لیے	نہ	ظلم-کریں-مجھ-پر	مغرور
	H6148	H5650	H0408	H6231	H2086	

دے۔ نہ کرنے ظلم پر مجھ کو مغروروں کر بن ضامن کا حالی خوش کی خادم اپنے

123	עֵינַי	כָּלִי	לְיִשׁוּעָתָךְ	וּלְאַמְרַת	צְדָקָתְךָ:
	میری-آنکھیں	تھک-گئیں	تیری-نجات-کے-لیے	اور-تیری-راست	کلام-کے-لیے
	H3615	H3444		H6664	

ہیں۔ گئی رہ دیکھتے دیکھتے راہ کی وعدے راست تیرے اور نجات تیری آنکھیں میری

124	עֲשָׂה	עִם-	עַבְדָּי	כְּחֶסֶדְךָ	וּחֶקֶךָ	לְמַדְנִי:
	کر	ساتھ	اپنے-بندے-کے	اپنی-رحمت-کے-مطابق	اور-تیرے-فرائض	سکھا-مجھے
			H5650	H2706	H3925	

سکھا۔ احکام اپنے مجھے ہو۔ مطابق کے شفقت تیری سلوک تیرا سے خادم اپنے

125	עַבְדָּךְ-	אָנִי	הִבִּינֵנִי	אֶלְדָּעָה	עֲדָתְךָ:
	تیرا-بندہ	ہوں-میں	سمجھا-مجھے	اور-جانوں	تیری-شہادتوں-کو
	H5650	H0589	H0995	H3045	

آئے۔ سمجھ پوری کی آئین تیرے تاکہ فرما عطا فہم مجھے ہوں۔ خادم ہی تیرا میں

126	עַתָּה	לְעֵשׂוֹת	לִיהְוָה	הִפְרוּ	תּוֹרָתְךָ:
	وقت-ہے	کرنے-کا	یہوواہ-کے-لیے	توڑی	تیری-شریعت
	H6256	H3068		H8451	

ہے۔ ڈالا توڑ کو شریعت تیری نے لوگوں کیونکہ اُنھائے، قدم رب کہ ہے گیا آ وقت اب

127	עַל-	בֵּן	אֲהַבְתִּי	מִצְוֹתֶיךָ	מִזְבֵּחַ:
	اس-لیے	اسی-وجہ-سے	محبت-کی-میں-نے	تیرے-احکام-سے	اور-خالص-سونے-سے
			H0157	H4687	H6337

ہوں۔ کرتا پیار زیادہ سے سونے خالص بلکہ سونے کو احکام تیرے میں لئے اس

128	עַל-	אֶבֶן	כָּל-	יִשְׂרָאֵל	כָּל-	אֶרֶץ	שָׁמַר:
	اس-لیے	اسی-وجہ-سے	سب	تیرے-احکام	سب	سیدھے-مانے	بر
			H3605	H6490	H3605	H3474	H0734

ہوں۔ کرتا نفرت سے راہ دہ فریب ہر میں ہوں۔ گزارتا زندگی مطابق کے آئین تمام تیرے سے احتیاط میں لئے اس

129	פְּלִאוֹת	עֲדוֹתֶיךָ	עַל-	כִּן	נִצְרַתֶם	נִפְשֵׁי:
	عجیب-ہیں	تیری-شہادتیں	اس-لیے	اسی-وجہ-سے	مانی	میری-جان-نے
	H6382	H5715		H5341	H5315	

بے-کرتی عمل پر اُن جان میری لئے اِس ہیں، انگیز تعجب احکام تیرے

פתח	דְּבָרֶיךָ	יָאִיר	מִבֵּין	פְּתִיִּים:	130
کھلنا	تیرے-کلام-کا	روشنی-دیتا-ہے	سمجھ-دیتا-ہے	سادہ-دلوں-کو	
H6608	H1697	H0215	H0995		

بے-کرتا عطا سمجھ کو لوح سادہ اور بخشنا روشنی انکشاف کا کلام تیرے

פִּי-	פֶּעֶרְתִּי	וְאֶשְׁאַפָּה	כִּי	לְמַצּוֹתֶיךָ	יֶאֱבֹרֵי:	131
منہ	کھولا-میں-نے	اور-بانپا	کیونکہ	تیرے-احکام-کی	آرزو-تھی-مجھے	
H6310	H6473			H4687	H2968	

ہوں-ربا بانپ کر کھول منہ کہ ہوں پیاسا اتنا لئے کے فرمانوں تیرے میں

פְּנֵה-	אֵלַי	וְחַנּוּנִי	כְּמִשְׁפָּט	לְאֵהֲבִי	שְׁמֹךְ:	132
پہر	میری-طرف	اور-رحم-کر-مجھ-پر	اپنے-دستور-کے-مطابق	اپنے-نام-سے-محبت-کرنے-والوں-کے-لیے	تیرے-نام-کے	
H6437	H0413		H4941	H0157	H8034	

ہیں-کرتے پیار سے نام تیرے جو بے کرتا پر سب اُن ٹو جو کر مہربانی وہی پر مجھ اور فرما رجوع طرف میری

פְּעָמַי	הִכֵּן	בְּאִמְרֹתֶיךָ	וְאֵל-	תִּשְׁלַט-	כִּי	כָּל-	אֲנִי:	133
میرے-قدم	قائم-کر	اپنے-کلام-میں	اور-نہ	غالب-ہو	مجھ-پر	کوئی	بدی	
H6471			H0408	H7980		H3605	H0205	

دے-کرنے نہ حکومت پر مجھ کو گناہ بھی کسی کر، مضبوط قدم میرے سے کلام اپنے

פְּדִנִי	מֵעַשָׁק	אָדָם	וְאֶשְׁמְרָה	פְּקוּדֶיךָ:	134
چھڑا-مجھے	ظلم-سے	انسان-کے	اور-مانوں-گا	تیرے-احکام	
H6299	H6233	H0120	H8104	H6490	

ربوں-تابع کے احکام تیرے میں تاکہ دے چھٹکارا سے ظلم کے انسان مجھے کر دے فدیہ

פְּנִיךָ	הֶאֱרָךְ	בְּעֵבְרֶיךָ	וְלִמְדֵנִי	אֶת-	חֻקֶיךָ:	135
اپنا-چہرہ	چمکا	اپنے-بندے-پر	اور-سکھا-مجھے	کو	تیرے-فرائض	
H6440	H0215	H5650	H3925	H0853	H2706	

سکھا۔احکام اپنے مجھے اور چمکا پر خادم اپنے نور کا چہرے اپنے

פְּלִינִי-	מִוִּם	יִרְדּוּ	עֵינַי	עָלַי	לֹא-	שְׁמְרוּ	תּוֹרֹתֶיךָ:	136
ندیاں	پانی-کی	بہیں	میری-آنکھوں-سے	اس-لیے-کہ	نہیں	مانی	تیری-شریعت	
H6388	H4325	H3381			H3808	H8104	H8451	

رتے-نہیں تابع کے شریعت تیری لوگ کیونکہ ہیں، ربی بہہ ندیاں کی آنسوؤں سے آنکھوں میری

צְדִיק	אֲתָה	יְהוָה	וְיִשָּׁר	מִשְׁפָּטֶיךָ:	137
راستباز	ہے-ٹو	یہوواہ	اور-سیدھی	تیری-عدالتیں	
H6662		H3068	H3477	H4941	

ہیں-درست فیصلے تیرے اور ہے، راست ٹو رب، اے

צְוִיֹּת	צִדְק	עֲדוּתֶיךָ	וְאִמּוֹנָה	מְאֹד:	138
حکم-دیا-ٹو-نے	راست	تیری-شہادتیں	اور-وفادار	بہت	
H6680	H6664		H0530	H3966	

ہیں-کئے جاری فرمان اپنے ساتھ کے وفاداری بڑی اور راستی نے ٹو

צְמִתְתִּנִּי	קִנְאָתִי	כִּי-	שָׁכַחוּ	דְּבָרֶיךָ	צָרִי:	139
تباہ-کیا	میری-غیرت-نے	کیونکہ	بھول-گئے	تیرے-کلام-کو	میرے-دشمن	
H6789	H7068		H7911	H1697		

ہیں۔ گئے بھول فرمان تیرے دشمن میرے کیونکہ ہے، گئی ہو تباہ باعث کے غیرت جان میری

140	צְרוּפָה	אִמְרָתְךָ	מֵאֵד	יַעֲבֹדְךָ	אֶהְבֶּהָ:
	آزمودہ	تیرا-کلام	بہت	اور-تیرے-بندے-نے	محبت-کی-اس-سے
	H6884	H3966	H5650	H0157	

ہے۔ کرتا پیار اُسے خادم تیرا ہے، ہوا ثابت صاف پاک کر آزما کلام تیرا

141	צְעִיר	אֲנָכִי	וְנִבְיָה	פְּקֻדֶיךָ	לֹא	שָׁכַחְתִּי:
	چھوٹا	ہوں-میں	اور-حقیر	تیرے-احکام	نہیں	بھولا-میں
	H6810	H0595	H0959	H6490	H3808	H7911

بھولنا۔ نہیں آئین تیرے میں لیکن ہے، جاتا جانا حقیر اور ذلیل مجھے

142	צְדָקָתְךָ	צְדָק	לְעוֹלָם	וְתוֹרָתְךָ	אֱמֶת:
	تیری-راستبازی	راستبازی-ہے	ابدی	اور-تیری-شریعت	سچائی-ہے
	H6666	H6664	H5769	H8451	H0571

ہے۔ سچائی شریعت تیری اور ہے، ابدی راستی تیری

143	צָר-	וּמְצוּק	מְצֻאוֹנִי	מְצוֹחֶיךָ	שֵׁשׁ־שָׁעִי:
	تنگی	اور-مصیبت	پائی-میں-نے	تیرے-احکام	میری-خوشی-ہیں
	H4689	H4672	H4687	H8191	

ہوں۔ ہوتا اندوز لطف سے احکام تیرے میں لیکن ہیں، گئی آ غالب پر مجھ پریشانی اور مصیبت

144	צְדָק	עֵדוּתֶיךָ	לְעוֹלָם	הִבִּינִי	וְאֶהְיָה:
	راست	تیری-شہادتیں	ابد-تک	سمجھا-مجھے	اور-جیوں
	H6664	H5715	H5769	H0995	H2421

ریوں۔ جیتا میں تاکہ فرما عطا سمجھ مجھے ہیں۔ راست تک ابد احکام تیرے

145	קְרָאתִי	בְּכָל-	לֵב	עֲנִי	יְהוָה	אֶצְרָה:
	پکارا-میں-نے	سارے	دل-سے	جواب-دے-مجھے	یہوواہ	تیرے-فرائض
	H7121	H3605		H3068	H2706	H5341

گا۔ گزاروں زندگی مطابق کے آئین تیرے میں سن! میری رب، اے ہوں، پکارتا سے دل پورے میں

146	קְרָאתֶיךָ	הוֹשִׁיעֵנִי	וְאֲשַׁמְּרָה	עֲדֹתֶיךָ:
	پکارا-تجھے	بچا-مجھے	اور-مانوں-گا	تیری-شہادتوں-کو
	H7121	H3467	H8104	

گا۔ کروں پیروی کی احکام تیرے میں بچا! مجھے ہوں، پکارتا میں

147	קִדְמוֹתֵי	בִּנְשׁוּף	וְאֲשִׁיעָה	לְדַבְרֶיךָ	(יְחַלְתִּי:
	آیا-میں	صبح-سویرے	اور-پکارا	تیرے-کلام	تیرے-کلام-پر	انتظار-کیا-میں-نے
	H6923	H5399	H7768	H1697	H1697	H3176

ہوں۔ میں انتظار کے کلام تیرے میں ہوں۔ پکارتا لئے کے مدد کر اٹھ میں پہلے پہلے سے پھٹنے پو

148	קִדְמוֹ	עֵינֵי	אֲשַׁמְּרוֹת	לְשִׁיחַ	בְּאִמְרָתְךָ:
	آگے	میری-آنکھیں	رات-کے-پہدوں-سے	غور-کرنے-کو	تیرے-کلام-پر
	H6923		H0821	H7878	

کروں۔ خوض و غور پر کلام تیرے تاکہ ہیں جاتی کھل آنکھیں میری ہی وقت کے رات

149	קְזוּלִי	שְׂמֹעָה	כַּחֲסָדֶךָ	יְהוָה	כְּמוֹשְׁפִימָךָ	חֲיִנִּי:
	میری-آواز	سن	اپنی-رحمت-کے-مطابق	یہوواہ	اپنی-عدالت-کے-مطابق	زندہ-کر-مجھے
	H8085			H3068	H4941	H2421

کر۔ دم تازہ کو جان میری مطابق کے فرمانوں اپنے رب، اے سن! آواز میری مطابق کے شفقت اپنی

150	קָרְבוֹ	רָדְפֵי	זְמַה	מוֹתָרְתֶךָ	רָחֵקוּ:
	قریب- آئے	پیچھا- کرنے- والے	شرارت- کے	تیری- شریعت- سے	دور- ہوئے
	H7126	H7291	H2154	H8451	H7368

ہیں۔ دُور انتہائی سے شریعت تیری وہ لیکن ہیں۔ گئے پہنچ قریب وہ ہیں رہے کر تعاقب میرا سے چالاکي جو

151	קָרְבוֹ	אַתָּה	יְהוָה	וְכָל-	מוֹצְוֹתֶיךָ	אַמַּת:
	قریب	ہے- تُو	یہوواہ	اور- سب	تیرے- احکام	سچائی- ہیں
	H7138	H3068	H3605	H4687	H0571	

ہیں۔ سچائی احکام تیرے اور ہے، ہی قریب تُو رب، اے

152	יָדְעִים	יָדְעִי	מַעֲדוֹתֶיךָ	כִּי	לְעוֹלָם	יִסְדָּתָם:
	پہلے- سے	جانتا- ہوں	تیری- شہادتوں- سے	کہ	ہمیشہ- کے- لیے	قائم- کیا- تُو- نے
	H3045				H5769	H3245

ہے۔ رکھا قائم لئے کے ہمیشہ انہیں نے تُو کہ ہے ہوا معلوم سے فرمانوں تیرے مجھے پہلے دیر بڑی

153	רְאֵה-	עֲנִי	וְחַלְצֵנִי	כִּי-	תוֹרַתְךָ	לֹא	שָׁכַחְתִּי:
	دیکھ	میری- مصیبت	اور- چھڑا- مجھے	کیونکہ	تیری- شریعت	نہیں	بھولا- میں
	H7200	H6040			H8451	H3808	H7911

بھولنا۔ نہیں شریعت تیری میں کیونکہ بجا! مجھے کے کر خیال کا مصیبت میری

154	רִיבָה	רִיבִי	וּנְאֻלֵּנִי	לְאִמְרָתְךָ	תִּנְיִי:
	لڑ	میرا- مقدمہ	اور- چھڑا- مجھے	اپنے- کلام- کے- مطابق	زندہ- کر- مجھے
	H7378	H7379			H2421

کر۔ دم تازہ کو جان میری مطابق کے وعدے اپنے جائے۔ چھوٹ جان میری تاکہ دے عوضانہ میرا کر لڑ میں حق میرے میں عدالت

155	רָחֹק	מִרְשָׁעִים	יְשׁוּעָה	כִּי-	חֲקִיךָ	לֹא	דָרְשׁוּ:
	دور- ہے	شریروں- سے	نجات	کیونکہ	تیرے- فرائض	نہیں	ڈھونڈے
	H7350	H7563	H3444		H2706	H3808	H1875

ہوتے۔ نہیں طالب کے احکام تیرے وہ کیونکہ ہے، دُور بہت سے بے دینوں نجات

156	רַחֲמֶיךָ	אֲרָבִים	יְהוָה	כְּמוֹשָׁפְטֶיךָ	תִּנְיִי:
	تیری- رحمتیں	بہت- ہیں	یہوواہ	اپنی- عدالتوں- کے- مطابق	زندہ- کر- مجھے
	H3068			H4941	H2421

کر۔ دم تازہ کو جان میری مطابق کے آئین اپنے ہے۔ کرتا اظہار کا رحم اپنے سے طریقوں متعدد تُو رب، اے

157	רָבִים	רָדְפֵי	וְצָרֵי	מַעֲדוֹתֶיךָ	לֹא	נִשְׁתִּי:
	بہت- ہیں	میرے- ستانے- والے	اور- دشمن	تیری- شہادتوں- سے	نہیں	مزا- میں
	H7291			H5715	H3808	H5186

ہوا۔ نہیں دُور سے احکام تیرے میں لیکن ہے، تعداد بڑی کی دشمنوں میرے اور والوں کرنے تعاقب میرا

158	רְאִיתִי	בְּגוֹדִים	וְאַתְקוֹטְטָהּ	אַשְׁר	אִמְרָתְךָ	לֹא	שָׁמְרוּ:
	دیکھا- میں- نے	ہے- وفاؤں- کو	اور- کڑھا	کیونکہ	تیرا- کلام	نہیں	مانا- انہوں- نے
	H7200	H0898	H6962			H3808	H8104

گزارتے۔ نہیں زندگی مطابق کے کلام تیرے وہ کیونکہ ہے، آتی گھن مجھے کر دیکھ کو بے وفاؤں

159	רָאָה	כִּי-	פְקוּדֶיךָ	אַהֲבָתִי	יְהוָה	כְּחַסְדֶּךָ	תִּנְיִי:
	دیکھ	کہ	تیرے- احکام- سے	محبت- کی- میں- نے	یہوواہ	اپنی- رحمت- کے- مطابق	زندہ- کر- مجھے
	H7200		H6490	H0157	H3068		H2421

کردم تازہ کو جان میری مطابق کے شفقت اپنی رب، اے ہے۔ پیار سے احکام تیرے مجھے دیکھ،

160	ראש-	דברך	אמת	ולעולם	כל-	משפט	צדקך:
	اصل	تیرے-کلام-کی	سچائی-ہے	اور-ابد-تک	ہر	عدالت	تیری-راستبازی-کی
		H1697	H0571	H5769	H3605	H4941	H6664

ہیں۔ قائم تک ابد فرمان راست تمام تیرے ہے، سچائی لباب لب کا کلام تیرے

161	שרים	רדפוני	חנם	ומדברידך	ומדברך	פחד	לבי:
	حاکموں-نے	ستایا-مجھے	بے-سبب	اور-تیرے-کلام	تیرے-کلام-سے	ڈرا	میرا-دل
	H8269	H7291	H2600	H1697	H1697	H6342	

ہے۔ ڈرتا ہی سے کلام تیرے دل میرا لیکن ہیں، کرتے پیچھا میرا بلاوجہ سردار

162	שש	אנכי	על-	אמרתך	כמוצא	שלל	רב:
	خوش	ہوں-میں	تیرے-کلام-پر	جیسے-پانے-والا	مال	غنیمت	بہت
	H7797	H0595		H4672	H7998		

ہو۔ گیا مل غنیمت مال کا کثرت جسے ہوں منانا طرح کی اُس خوشی کی کلام تیرے میں

163	שקר	שנאתי	ואתעבה	תורתך	אהבתי:		
	جھوٹ-سے	نفرت-کی-میں-نے	اور-گھن-آئی	تیری-شریعت-سے	محبت-کی-میں-نے		
	H8267	H8130	H8581	H8451	H0157		

ہے۔ پیاری مجھے شریعت تیری لیکن ہوں، کھاتا گھن بلکہ کرتا نفرت سے جھوٹ میں

164	שבע	ביום	הלחתיך	על	משפטי	צדקך:	
	سات-بار	دن-میں	حمد-کی-تیری	پر	تیری-راست-عدالتوں	تیری-راستبازی-کی	
	H7651	H3117			H4941	H6664	

ہیں۔ راست احکام تیرے کیونکہ ہوں، کرتا ستائش تیری بار سات میں دن میں

165	שלום	רב	לאהבי	תורתך	ואין-	למו	מכשול:
	سلامتی	بہت	تیری-شریعت-سے-محبت-کرنے-والوں-کے-لیے	تیری-شریعت-سے	اور-نہیں	اُن-کے-لیے	ٹھوکر
	H7965		H0157	H8451	H0369		H4383

گے۔ گریں نہیں کر کھا ٹھوکر سے چیز بھی کسی وہ ہے، حاصل سکون بڑا انہیں ہے پیاری شریعت جنہیں

166	שבתי	לשועתיך	יהוה	ומצותיך	עשיתי:		
	انتظار-کیا-میں-نے	تیری-نجات-کے-لیے	یہوواہ	اور-تیرے-احکام	کیے-میں-نے		
		H3444	H3068	H4687			

ہوں۔ کرتا پیروی کی احکام تیرے ہوئے ربتے میں انتظار کے نجات تیری میں رب، اے

167	שמרה	נפשי	עדתך	ואהבם	מאד:		
	مانی	میری-جان-نے	تیری-شہادتوں-کو	اور-محبت-کی	بہت		
	H8104	H5315		H0157	H3966		

ہیں۔ پیارے نہایت اُسے وہ ہے، رہتی لیٹی سے فرمانوں تیرے جان میری

168	שמרתי	פקודיך	ועדתך	כי	כל-	דרכי	ננדך:
	مانے-میں-نے	تیرے-احکام	اور-تیری-شہادتیں	کیونکہ	سب	میری-راہیں	تیرے-سامنے-ہیں
	H8104	H6490			H3605	H1870	H5048

ہیں۔ سامنے تیرے راہیں تمام میری کیونکہ ہوں، کرتا پیروی کی ہدایات اور آئین تیرے میں

169	תקרב	רנתי	לפניך	יהוה	כדברך	וביני:	
	پہنچے	میری-فریاد	تیرے-حضور	یہوواہ	اپنے-کلام-کے-مطابق	سمجھا-مجھے	
	H7126	H7440	H6440	H3068	H1697	H0995	

فرما۔ عطا سمجھ مطابق کے کلام اپنے مجھے آئیں، سامنے تیرے آپس میری رب، اے

170	תְּבוּאָה	תְּחִנָּתִי	לְפָנֶיךָ	כְּאִמְרֹתֶיךָ	הַצִּילֵנִי:
	آنے	میری-التجا	تیرے-حضور	اپنے-کلام-کے-مطابق	بچا-مجھے
	H0935	H8467	H6440		H5337

چھڑا! مطابق کے کلام اپنے مجھے آئیں، سامنے تیرے التجائیں میری

171	תְּבַעֲנָה	שִׁפְתַי	תְּהַלֵּלָהּ	כִּי	תִלְמְדֵנִי	חֲקֹךָ:
	بولیں	میرے-بونٹ	حمد	کیونکہ	سکھاتا-ہے-تو-مجھے	تیرے-فرائض
	H5042	H8193	H8416		H3925	H2706

ہے۔ سکھاتا احکام اپنے مجھے تو کیونکہ نکلے، پھوٹ ثنا و حمد سے بونٹوں میرے

172	תַּעֲן	לְשׁוֹנִי	אִמְרֹתֶיךָ	כִּי	כָּל-	מִצְוֹתֶיךָ	צָדִק:
	جواب-دے	میری-زبان	تیرے-کلام-کو	کیونکہ	سب	تیرے-احکام	راست-ہیں
		H3956			H3605	H4687	H6664

ہیں۔ راست فرمان تمام تیرے کیونکہ کرے، سرائی مدح کی کلام تیرے زبان میری

173	תְּהִי-	יְדָךְ	לְעֹזֵרִי	כִּי	פְקוּדֹתֶיךָ	בְּחַרְתִּי:
	ہو	تیرا-ہاتھ	میری-مدد-کے-لیے	کیونکہ	تیرے-احکام	چنے-میں-نے
	H1961	H3027	H5826		H6490	H0977

ہیں۔ کئے اختیار احکام تیرے نے میں کیونکہ رہے، تیار لے کے کرنے مدد میری ہاتھ تیرا

174	תְּאַבְרֵנִי	לְיִשׁוּעָתֶךָ	יְהוָה	וְתוֹרָתֶךָ	שִׁעֲשֻׁעֵי:
	آرزو-کی-میں-نے	تیری-نجات-کے-لیے	یہوواہ	اور-تیری-شریعت	میری-خوشی-ہے
	H8373	H3444	H3068	H8451	H8191

ہوں۔ ہوتا اندوز لطف سے شریعت تیری ہوں، آرزومند کا نجات تیری میں رب، اے

175	תְּחִי-	גִּפְשִׁי	וְתִהְיֶה לִּי	וּמִשְׁפָּטֶיךָ	יְעֹזְרֵנִי:
	جیے	میری-جان	اور-حمد-کرے-تیری	اور-تیری-عدالتیں	مدد-کریں-میری
	H2421	H5315		H4941	H5826

کریں۔ مدد میری آئیں تیرے سکے۔ کر ستائش تیری تاکہ رہے زندہ جان میری

176	תְּעִיתִי	כְּשָׁח	אֲבִד	בְּקִשׁ	עֲבָדְךָ	כִּי	מִצְוֹתֶיךָ	לֹא	שָׁכַחְתִּי:
	بھٹکا-میں	بھیڑ-کی-طرح	کھوئی-ہوئی	ڈھونڈ	اپنے-بندے-کو	کیونکہ	تیرے-احکام	نہیں	بھولا-میں
	H8582	H7716	H0006	H1245	H5650		H4687	H3808	H7911

بھولتا۔ نہیں احکام تیرے میں کیونکہ کر، تلاش کو خادم اپنے ہوں۔ رہا پھر آوارہ طرح کی بھیڑ ہوئی بھٹکی میں